

ارشادات حضرت سید ہمدانیؒ

# منہاج العارفين

من تصنیف

حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی

قدس اللہ سرہ العزیز



حمد بے حد و ثنا بے عدسہ آفریدگار پیرا سز  
 کہ سینہ عارفانِ مخزنِ اسرارِ خود ساخت و لوحِ دلِ مجبان  
 از غیر خود پاک شست۔

درود و بر جانِ پاکیزہ خلاصہ موجودات  
 خواجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ تشریف  
 خطاب اتا اس سلتک ساحتہ للعالمین مشرف و  
 مخصوص ساخت۔

و بر اہل بیت و پیروانِ او  
 و بدان اے عزیز! و فقک اللہ لما یحب و یحیی  
 کہ ایں چند سخن از کلامِ اہل معرفت جمع آورده۔ "منہاج العارفین"  
 نام نہادہ آمد تا مگر را شنیدن و خواندن این کس را فائدہ باشد۔

لا تعداد و بے شمار حمد و ستائش اُس خالقِ کائنات کیلئے  
 جس نے خدا شناسوں کے سینوں کو اپنے رازوں اور بھیدوں کا خزانہ  
 و گنجینہ بنایا اور اپنے عاشقوں کے دلوں کی تختیوں کو غیر اللہ کی محبت سے  
 صاف و پاک کر دیا۔

ان گنت درود و سلام ہو اُس جوہرِ خالص کی روحِ اقدس  
 پر جو خواجہ کائنات اور مولائے گل بن کر آیا جس کا نام نامی واسمِ گرامی ہے  
 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے اتا اسلتک رحمتہ للعالمین کے خلعت و  
 خطاب سے سرفراز کیا گیا اور خاص الخاص درجہ عطا کیا گیا۔

آپ کے اہل بیت اور پیروؤں تک بھی سلام شوق پہنچے۔  
 اے عزیز! خداوند کریم تم کو ان اعمالِ حسنہ کی توفیق بخشے  
 جو رب کائنات کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ جان لے کہ خدا دوستوں  
 کے ارشادات سے یہ چند باتیں اس لئے جمع کی گئی ہیں اور ان کا نام  
 "منہاج العارفین" رکھا گیا ہے۔ تاکہ قارئین و سامعین بار بار پڑھتے رہیں،  
 سنتے رہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہیں۔



- ۱ زمینہار بغیر حق اعتماد کنی تا پشیمان نشوی  
خبردار حق کے بغیر (اور کسی پر) اعتماد نہ کرنا تاکہ پشیمان نہ ہو جاؤ گے۔
- ۲ از حق غافل مباش تا شیطان بر تو راہ نیابد  
اللہ کی یاد سے غافل مت ہو جاؤ تاکہ شیطان تم پر غالب نہ آجائے۔
- ۳ دل را خالی کن تا راحت یابی  
دل کو دہر حوص و آرز سے خالی کر لو تاکہ سکون پاؤ گے۔
- ۴ در کار حق باش ناکار تو ساختہ گزرد  
اللہ کے کام میں لگا جاؤ تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے۔
- ۵ جز حق دوست گیری تا خستہ نگر دی  
اللہ کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ تاکہ شکستہ دل نہ ہو جاؤ گے۔
- ۶ در کار دنیا اہتمام اندک کن تا کفایت یابی  
دنیا دنیا کم ہی کیا کرو تاکہ سیر چشمی حاصل ہوگی۔
- ۷ دل بر کس مینہ تا زیاں نیابی  
کسی کو دل مت دو تاکہ نقصان نہ اٹھاؤ گے۔

- ۸ کس را عیب مکن تا بہ عیب خود مبتلا نشوی  
کسی کی عیب جوئی مت کرو تاکہ خود عیب دار نہ بن جاؤ گے۔
- ۹ بہ بیچ مغرور مشو تا شرمندہ نشوی  
کسی چیز پر غرور مت کرو تاکہ شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔
- ۱۰ غیبت را دوست مدار تا ناحق از تو دشمن نشوند  
غیبت مت کیا کرو تاکہ (لوگ) خواہ مخواہ تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔
- ۱۱ در تنگی ہا صبر کن تا فرج یابی  
تنگیوں اور سختیوں پر صبر کرو تاکہ فرحت پاؤ گے۔
- ۱۲ طمع از دل دور کن تا خوار نگر دی  
دل کو لالچ سے خالی کر لے تاکہ ذلیل نہ ہو جاؤ گے۔
- ۱۳ از ہمہ نومید شو تا امید تو بر آید  
کسی کی امید مت رکھو تو با مراد ہو جاؤ گے۔
- ۱۴ کار با اخلاص کن تا در حال خیر یابی  
غلو سے کام کرتے جاؤ تاکہ خیر ہی خیر پاؤ گے۔
- ۱۵ غم دنیا محور تا دل تباہ نشود  
دنیا کا غم مت کھاؤ تاکہ تمہارا دل تباہ نہ ہو جائے۔
- ۱۶ راستی و رزتا بر ہی  
سچی کو اپناؤ تو آزادی پاؤ گے۔
- ۱۷ آزار کس نخواہ تا اماں یابی  
کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ اسن و اماں پاؤ گے۔



- 18 گنہ در کس منہ تاد رگنہ نیفتی  
کسی کو گنہگار مت ٹھہراؤ تاکہ گناہوں میں گھیرے نہ جاؤ گے۔
- 19 کس را بہ حقارت منگر تا خوار نشوی  
کسی کو حقارت سے مت دیکھ لے تاکہ ذلیل نہ ہو جاؤ گے۔
- 20 از جہت دنیا اندونگیں مباحش تا پریشاں نشوی  
دنیا کی خاطر غمگین مت ہو جاؤ تاکہ پریشاں نہ ہو جاؤ گے۔
- 21 قدر نعمت بشتاس تا از تو باز نستاند  
(خدا کی دی ہوئی) نعمت کی قدر کر لے تاکہ نعمت چھین نہ لی جائے۔
- 22 از ہمہ جدائی کن تا بہ حق برسی  
ہر ایک سے کٹ جاؤ تاکہ خدا تک رسائی حاصل ہوگی۔
- 23 غم فردا نخور تا امل کو تاہ شود  
کل کی فکر مت کر لے تاکہ دل دنیا کی طرف جھکانہ رہے۔
- 24 مرگ را یاد کن تا دل بہ دنیا نہ گراید  
موت کو یاد کیا کرتا کہ دل دنیا کی طرف جھکانہ رہے۔
- 25 ترک دنیا گب اگر لقمہ حلال می خواہی  
اگر حلال روزی چاہتے ہو تو دنیا کو ترک کر لے یعنی (دنیا ہی کو اپنا محور نہ بنا لے)
- 26 توقع از کس کن تا عزت یابی  
کسی سے (بے جا) توقع مت رکھ لے تاکہ عزت پاؤ گے۔
- 27 فرد تنی کن تا بہ بزرگی رسی  
نرم روی اختیار کرو تاکہ بزرگی ہاتھ آئے گی۔

- 28 بر خود مبیں تا مردود نہ گردی  
خود بین و مغرور مت بن جاؤ تاکہ دھتکارے نہ جاؤ گے۔
- 29 از خلق عزت گبیر تا بہ حق آنس یابی  
لوگوں سے یکسوئی اختیار کر لے تاکہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔
- 30 شکر حق بجائے آرا اگر نعمت دین و دنیا می خواہی  
اگر دین و دنیا کی نعمت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔
- 31 ایمن مباحش تا اماں یابی  
بے خوفی کی زندگی مت گزار لے تاکہ امن پاؤ گے۔
- 32 با حق باش تا عیش جاوداں یابی  
اللہ کے بن جاؤ تاکہ ابدی راحت پاؤ گے۔
- 33 خدمت بزرگاں کن تا بہ بزرگی برسی  
بزرگوں کی خدمت کیا کرو تاکہ خود بھی بزرگی پاؤ گے۔
- 34 صبر پیش گب اگر عاقبت می خواہی  
اگر سلامتی چاہتے ہو تو صبر کو اپناؤ۔
- 35 خود را بہ حق سپار تا بہ سماں برسی  
اپنے کو اللہ کے سپرد کرو تاکہ صاحب سرمایہ ہو جاؤ گے۔
- 36 چنگ در دامن صاحب دولتان زن اگر دولت خواہی  
اگر من کی دولت چاہتے ہو تو اسی صاحب دولت (عارفان حق) کی دامن گیری کرو  
نہ پوچھو ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھو انکو  
یہ بیضائے میٹھے ہیں اپنی آستینوں میں



- اندریں عالم نیسری باخسے  
تانیانویزی بدامان کسے اقبالے
- 37 آہستہ روتا ماندہ نشوی  
(رفتار حیات میں) میانہ روی اختیار کرو تا کہ خستہ نہ ہو جاؤ گے۔
- 38 خود را بہ شیخ قدر منہ تا با قدر گردی  
اپنے پرست اتراؤ تا کہ صاحب قدر بن جاؤ گے۔
- 39 از صحبت اہل دنیا بہ پرہیز تا تیرہ دل نشوی  
دُنیا پرستوں کی صحبت سے بھاگو تا کہ تمہارا دل سیاہ نہ ہو جائے۔
- 40 خود را در حق میں تا از خود فانی گردی  
اپنے پر حق کی نگاہ ڈالو تا کہ خود پرست نہ بن جاؤ گے۔
- 41 ہمت بلند دار تا قسمت بیفزاید  
بلند ہمتی سے کام لو تا کہ قسمت جاگ اٹھے گی۔
- 42 بر حرف کس انگشت منہ تا مؤاخذہ نگر دی  
کسی کی باتوں پر عیب چینی مت کرو تا کہ تم پر مؤاخذہ نہ کیا جائے (ناگسی کی گرفت میں نہ آؤ گے)۔
- 43 اختیار کو کشش کن ناراہ بیابی  
کوشش کو شعار بناؤ تا کہ (فلاح و نجات کا) راستہ پاؤ گے۔
- 44 حر لیس مباحش تا خوار نگر دی  
لاچی مت بنو تا کہ ذلیل نہ ہو جاؤ گے۔
- 45 توفیق از حق میں تا عزمہ نشوی  
(ذکیوں پر) توفیق اللہ ہی کی دین جان لو تا کہ ذکیوں کر کے) مغرور نہ ہو جاؤ گے۔

- 46 کردار خود را قدر منہ تا با قدر گردی  
اپنے کئے پرست اتراؤ تا کہ تمہاری قدر کی جائیگی۔
- 47 دل بکس مدہ تازیان زردہ نشوی  
کسی کو دل مت دو تا کہ نقصان نہ اٹھاؤ گے۔
- 48 از ہمہ نومید شو اگر محبت خواہی  
اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو کسی سے آس لگائے مت بیٹھو یعنی ہر ایک  
سے بے نیاز ہو کر کسی کو بھی اپنائت نہ بناؤ تا کہ سب تجھ سے محبت کریں۔
- 49 در کس میں اگر معرفت داری  
اگر تو مرد بینا ہے تو کسی کی طرف (امید بھری نگاہوں سے) مت دیکھو۔
- 50 از ہمہ مفلس شو اگر صحت خواہی  
اگر صحت مندی چاہتے ہو تو ہر ایک سے کنارہ کش ہو جاؤ۔
- 51 بر در باشش تا بخت آیند  
(حق کا) دروازہ کھٹکھٹاتے رہو (آخر کار) کھلا ہی جائیگا۔  
در طلب کو کش مدہ دامن امید از دست  
دولے ہست کہ یابی ہر را ہے گا ہے اقبالے
- 52 بار چن داں گیر کہ بمنزل رساند  
انتاہی بوجھ اٹھاؤ جو منزل تک پہنچا سکو گے۔
- 53 در بند چہینرے مباحش تا آزاد نشوی  
کسی بھی شے پر دل مت دو تا کہ آزاد زندگی گزارو گے  
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ اقبالے



- 54 ● بصدرق طلب تابیبانی  
(رب کائنات کے سامنے) مخلصانہ ہاتھ پھیلاؤ تو ضرور پاؤ گے۔
- 55 ● حرمت نگاہدار تا محترم گردی  
(دوسرے کی) عزت کا خیال رکھا کرو تاکہ تیری عزت کی جلے گی۔
- 56 ● خود را در میاں مبیں تا بمعرفت بری  
خود بینی کو ترک کر لے تاکہ خدا شناس بن جاؤ گے۔
- 57 ● خوشنوی باش تا عزیز گردی  
خوش خلق بن جاؤ تاکہ سبوں کے محبوب بن جاؤ گے۔
- 58 ● خشم فرد خور تا راحت یابی  
غصہ چھپا کر و تاکہ آرام و سکون پاؤ گے۔
- 59 ● مسکین باش تا مقبول شوی  
نرم خو بن جاؤ تاکہ مقبولیت حاصل کرو گے۔
- 60 ● کاری کن تا عاقبت آل پشیمان نشوی  
ایسا کام کرو کہ تمہیں آخر کار کھیتا نہ پڑے۔
- 61 ● در عیب خود فرو شو اگر در کاری  
اگر تو کام کا آری بننا چاہتا ہے تو اپنے ہی عیبوں پر نظر رکھا کرو۔
- 62 ● کار دیگران کن اگر بیکاری  
اگر تمہیں اپنے لئے کوئی کام کرنے کا نہیں تو دوسروں کے کام کیا کرو۔
- 63 ● باہمہ نرمی کن تا از دشمن بری  
ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تاکہ دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔

- 64 ● بر نعمت کس حسد مبر تا عافیت یابی  
کسی کی نعمت پر حسد مت کر تاکہ سلامت رہو گے۔
- 65 ● بارہمہ کش تا محتشم شوی  
سبوں کا بوجھ اٹھاؤ (ہر ایک کے کام آجاؤ) تاکہ عزت والا بن جاؤ گے۔
- 66 ● بر زیر دستاں شفقت کن تا رہائی یابی  
ماتحتوں سے محبت کیا کرو تاکہ تمہیں بھی آزادی ملے۔
- 67 ● سوداے کن کہ سود پور  
ایسا سودا کر لے جو نفع بخش ہو۔
- 68 ● بسودا ندک پسندہ کن تا برکت یابی  
تھوڑے ہی نفع پر بس کر لے تاکہ برکت حاصل کرو گے۔
- 69 ● آہستگی کن تا شیطان بر تو راہ نیابد  
ہر کام آہستگی سے کر لے تاکہ شیطان تجھ پر غالب نہ آجائے۔  
التعجیل من الشیطان والتانی من الرحمان  
(جلد بازی شیطان کا کام اور آہستگی رحمان کا) الحیث
- 70 ● دلہارا در یاب تا خوشنودی حق یابی  
دلوں کی رکھوالی کیا کرو (یعنی کسی کی بھی دل آزاری مت کیا کرو) تاکہ اللہ کی خوشنودی پاؤ گے۔
- 71 ● بدخواہی ترک دہ تا عیش بر تو تلخ نہ گردد  
بدخواہی چھوڑ دے تاکہ تمہاری زندگی تلخ نہ ہو جائے۔
- 72 ● در معاطت سخت مپیچ تا خستہ نگر دی  
معاطات میں سختی مت کرو تاکہ خستگی سے بچ جاؤ گے۔



- 73 ● ہر ہمہ آسان کن تا بر ہی  
حصہ ایک کے لئے آسانی مہیا کر تاکہ آزادی پاؤ گے۔
- 74 ● دیگر اراں را ز خود بہتر داں تا خلاصی یابی  
دوسروں کو اپنے سے بہتر جان لے تاکہ خلاصی حاصل کر سکو گے۔
- 75 ● در شتی ممکن تا نزدیک ہمہ دشمن نشوی  
سختی مت کیا کرو تاکہ سبوں کے دشمن نہ بن جاؤ گے۔
- 76 ● یار ہمہ باش اگر مرد را ہی  
اگر تو مرد سالک ہے تو ہر ایک کے دوست و مددگار بن جاؤ۔
- 77 ● از خود طب کن اگر جو انمردی  
اگر تو باہمت جو انمرد ہے تو دوسروں سے مانگنے کے بجائے اپنی مدد اپنے کے
- 78 ● حق را یاد کن تا دل ویراں نشود  
خدا کو یاد کیا کرو تاکہ دل ویراں نہ ہو جائے۔  
(زاشک سحر گاہی زندگی را برگ و ساز آور  
شود کشت تو ویراں تا نہ زیری دانے پے در پے) اقبالؒ
- 79 ● ماندگاں را در یاب تا در نما فی  
تھکے ماندوں کی دستگیری کرنے تاکہ تم عجب و ماندگی سے بچ جاؤ گے۔
- 80 ● در گذار تا از تو در گذارند  
معاف کیا کرو تاکہ تجھے بھی معاف کیا جائے۔
- 81 ● از افتادگاں مگذر تا در نیفتی  
گرے ہوؤں سے منہ مت موڑ لے تاکہ تم نہ گر جاؤ گے۔

- 82 ● سوے دنیا تیز مہیں تا کو نشوی  
دنیا پر تیز (لاح بھری) نگاہیں مت ڈالو تاکہ (دل کے) اندھے نہ ہو جاؤ گے
- 83 ● ہر جاے مرو تا لنگ نگر دی  
در درمت گھومو تاکہ لنگر نہ ہو جاؤ گے۔
- 84 ● جز حق میندیش اگر طابلی  
اگر تو طالب مولیٰ ہے تو اس کے بغیر کسی کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔
- 85 ● از حکم گردن متاب تا عاصی نشوی  
(شریعت کے) حکم سے منہ مت موڑ لے تاکہ گنہگار نہ ہو جاؤ گے۔
- 86 ● افتادہ را در یاب تا دستگیرے یابی  
تم گمے ہوؤں کی دستگیری کرو تمہارا بھی کوئی ہاتھ پکڑے گا۔ (اوروں کی مدد کرو تمہیں بھی مددگار ملے گا)
- 87 ● پیش ہر کس منشین تا تباہ نگر دی  
ہر ایک کا مصاحب مت بنو تاکہ تباہ و برباد نہ ہو جاؤ گے۔  
(اے بسا ابلیس آدم روے بہست  
پس بہر دستے نباید داد دست) روحانی
- 88 ● ترک لذت گیر اگر لذت خواہی  
اگر ابدی لذت چاہتے ہو تو فانی لذت سے دست کش ہو جاؤ۔
- 89 ● انصاف خلق دہ تا ستمگار نشوی  
لوگوں کی داد رسی کیا کرو تاکہ ظالم نہ بن جاؤ گے۔
- 90 ● آں کار کن کہ حق پسندد  
وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے۔



- ۹۱ • آں پسند کن کہ حق کند تا مقصود رسی  
اللہ جو کچھ بھی کرے وہ پسند کرو تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ (تاکہ مطلب پاؤ گے)
- ۹۲ • باکس مستیز نا از گنہ بر ہی  
کسی سے بھی مت جھگڑا کیا کرو تاکہ گناہوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔
- ۹۳ • آنکس کہ با تو بدی کند بادی نیکی کن  
جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔
- ۹۴ • خود را بے قدر دار تا قدر تو بیفزاید  
اپنے کو کم قدر جانو پھر تمہاری قدر بڑھے گی۔
- ۹۵ • بیدار باش تا زد و خانہ در نیاید  
بیدار رہو تاکہ چور گھر میں گھس نہ آئے (یعنی شیطان حملہ نہ کرے)۔
- ۹۶ • با قافلہ رو کہ رخصت زناں بسیارند  
کارواں کے ساتھ چلو کیونکہ (راستے میں) لیٹرے بہت ہیں۔
- ۹۷ • ہمراہ طلب کہ دشمنان در کار اند  
کسی ساتھی کو ڈھونڈو کیونکہ دشمن کام میں لگے ہوئے ہیں۔  
(حمر زہان کن گفتہ خیر البشر  
ہست شیطان از جماعت دورتر) اقبالؒ
- ۹۸ • خود را گم کن تا جویند  
اپنے کو گم کرو تاکہ تمہاری تلاش کی جائے (یعنی راز حق کی کھوج میں گم ہو جاؤ تاکہ تم ہی راز بن جاؤ گے)
- تو خود غم کہ نہ گرد و یا وہ او  
بلکہ عالم یا وہ گردانند روی

- کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے  
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اقبالؒ
- ۹۹ • مدح مگو چوں عاقبت ندانی  
کسی کی تعریف مت کرو جب تم کو معلوم نہیں کہ اسکا انجام کیا ہو گا۔
- ۱۰۰ • علم نادانی بخواں اگر دانائی  
جو علم تو جانتا نہیں تو اسے پڑھ لے، اگر تو دانا ہے۔
- ۱۰۱ • خود را گنگ ساز تا گویا شوی  
اپنے کو گولگانا بناؤ تاکہ بولنا آئیگا (یعنی زیادہ سنو کم بولو)
- ۱۰۲ • دست از گدای مدار اگر گنجما داری  
اگر تو خزانوں کا بھی مالک ہے ہاتھ گدائی سے مرت اٹھاؤ (یعنی سب  
کچھ جاننے کے باوجود مزید جاننے کی کوشش کرو)
- ۱۰۳ • بے یار شوت یا یار یابی  
بے یار بن جاؤ تاکہ تمہیں یار حاصل ہو جائے (یعنی ہر ایک سے کٹ  
جاؤ تاکہ وہ ایک تمہیں اپنا دوست بنائے)۔
- ۱۰۴ • سر بریں در بنہ تا برو  
اس (خدا کے) دروازے پر سر رکھو یہاں تک کہ اسی کی راہ میں قربان ہو جائے۔
- ۱۰۵ • نیک کار پیش گیر تا تمام شود  
ایک ہی کام کر لو لیکن پورا کر لو۔
- ۱۰۶ • سر بر خط فرمان نہ اگر بندہ  
اگر بندہ ہے تو حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔



- ۱۵۶ • بندہ خود خواہ مباحث تا محروم نشوی  
خود غرض مت بن جاؤ تا کہ محروم نہ رہو گے۔
- ۱۵۷ • دوستی آں بہ کہ برائے خدا بود  
دوستی ایسی بہتر ہے جو خدا کی رضا کے لئے ہو۔
- ۱۵۸ • خواجگی از سر فرد آرتا بر خوری  
خواجگی و سرداری (کاغذ) سر سے نکال دو تا کہ فائدہ اٹھاؤ گے۔
- ۱۱۵ • بار خود منہ تا عسز ز مانی  
اپنا بوجھ دوسرے پر مت ڈالو تا کہ تم محبوب بن جاؤ گے۔
- ۱۱۱ • بزرگی بر پینج کس منہ تا خوار نگر دی  
کسی کے سامنے اپنی بزرگی مت جلاؤ تا کہ ذلیل نہ ہو جاؤ گے۔
- ۱۱۲ • جانرا در باز اگر صہادتی  
اگر تو سچا (بندہ) ہے تو (محبوب کے لئے) جان کی بازی لگاؤ۔
- ۱۱۳ • کس را بہ طبع مستای تا گرفتار نشوی  
کسی لالچ کی وجہ سے کسی کی تعریف مت کر تا کہ خود ہی گرفتار نہ ہو جاؤ گے۔
- ۱۱۴ • در دریا فرد دروتا گوہر یابی  
دریا کی تہ میں اتر جاؤ تا کہ موتی پاؤ گے (یعنی خوب ریاضت کرو تو پھل پاؤ گے)
- ۱۱۵ • تمییر بلار اہداف شو اگر دوستی می خواہی  
اگر تو محبوب کی دوستی کا خواہاں ہے تو آزمائشوں کے تیروں کا نشانہ بن جاؤ۔
- ۱۱۶ • رہبر طلب اگر راہ روی  
اگر تو سالک باللہ ہے تو رہبر کی تلاش کرو۔

- ۱۱۷ • راہ خرا بہ گیسر اگر عاشقی  
دشوار گزار راستہ اختیار کر لے اگر تو سچا عاشق ہے (مطلب محبوب کی راہ میں سختیاں جھیلنے کی عادت ڈال)
- ۱۱۸ • یک سودا کن اگر سود خواہی  
اگر (لدی) نفع چاہتے ہو تو ایک ہی سودا کر یعنی ایک ہی سولی کیساتھ لو لگاؤ۔
- ۱۱۹ • اندیشہ از دل دور کن تا پریشاں نشوی  
دل سے دوسرے دور کر دو تا کہ (خواہ مخواہ) پریشان نہ رہو گے۔
- ۱۲۰ • خود پسند مباحث تا پسندیدہ شوی  
مغرور مت بنو محبوب بن جاؤ گے۔
- ۱۲۱ • پسند بشنو تا سود کنی  
نصیحت سنا کر و تا کہ فائدہ اٹھاؤ گے۔
- ۱۲۲ • خود را رنجہ دار تا راحت یابی  
اپنے کو محنت پر لگاؤ تا کہ آرام پاؤ گے۔
- ۱۲۳ • در مالا یعنی مشغول مشغول تا حسرت نخولی  
لغویات و فضولیات میں مشغول مت ہو جاؤ تا کہ افسوس نہ کرتے رہو گے۔
- ۱۲۴ • بکوشی تا ہیبابی  
محنت کرو پاؤ گے۔
- ۱۲۵ • نفس را استوار مدار کہ دروغ گو مت  
نفس کا اعتبار مت کر لویہ جھوٹا ہے۔
- ۱۲۶ • گفت دل پاسدار کہ ہرگز خلاف نکند  
دل کا کہا مانو جو کبھی غلط نہیں کرتا۔



- 129 پناہ بحق گیسے تراخلاصی یابی  
اللہ کے پناہ میں رہو تاکہ آزادی پاؤ گے۔
- 128 طمع از خلق بردار تا محتاج نگر دی  
لوگوں سے اُمیدیں کاٹ لو تاکہ کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔
- 129 نفس را پاسدار تا بجائے برسی  
ہر سانس کا خیال رکھا کر دیکھ کسی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔
- 130 نفس را خلاف کن اگر دلاوری  
اگر بہادر ہے تو نفس کا کھنا مت مان (خواہش نفس کو توڑ دے)  
بڑے موزی کو مارا نفسِ آمارہ کو گر مارا  
نہنگ واژ رہا و شیر نہ مارا تو کیا مارا ذوقے
- 131 سر در گریباں فرو بر تا عیب جوئی نشوی  
اپنے گریباں میں منہ ڈالو تاکہ اوروں کی عیب چینی نہ کرو گے۔
- 132 بضاعت دنیا را خریدار مشو تا زیاں نکنی  
متاع دنیا کے پچھے مت لگ جاؤ تاکہ گھائے میں نہ رہو گے۔
- 133 اختیار خود را بر طرف گوشہ نہ تا محتاج نگر دی  
اپنے اختیار و پسند سے دست بردار ہو جاؤ محتاج نہیں رہو گے۔
- 134 با گمشدگان منشیں تا گم نشوی  
بے خودوں کے ساتھ مت بیٹھا کر و تاکہ تم بھی بے خود نہ ہو جاؤ گے۔
- 135 پاس انفس دار اگر بیداری  
اگر دل بیدار رکھتے ہو تو ہر سانس کے اتار چڑھاؤ سے خبردار رہو۔

- 136 دلہارا دریا ب اگر ہمشیری  
اگر ہوشمند ہو تو دلوں کی رکھوالی کرو۔
- 137 بضاعتی خرید کن کہ حق خریدار آں بود  
ایسا مال خرید لے کہ خدایے پاک اُس کی خریداری کرے۔
- 138 حاجت خود جز حق بردار تا برآید  
اپنی حاجت اللہ کے بغیر کسی کے سامنے پیش مت کرو تاکہ تمہاری حاجت روا کی ہو
- 139 ہمہ حال با ادب باش تا راہ یابی  
ہر وقت (اسلامی آداب کے ساتھ) با ادب رہو تاکہ راہ حق پاؤ گے  
از خدا خواہیم تو فیتنی ادب  
بے ادب محروم گشت از فضل رب
- 140 قدر خویش بشناس تا بقدر گردی  
اپنی قدر و قیمت پہچان لے تاکہ قدر والے بن جاؤ گے۔  
شاخ نہال سدرہ خا و خمس چمن مشو  
منکر او اگر شوئی مت نہ کن خویش تن مشو اقبال
- 141 کار یا اندیشہ کن تا زیاں نکنی  
سوچ سمجھ کر کام کرو تاکہ نقصان نہ اٹھاؤ گے۔
- 142 از حق شرم دار تا درگنہ نیفتی  
اللہ سے شرم کیا کرو تاکہ گناہوں میں لت پت نہ ہو جاؤ گے۔
- 143 بیگانہ را اندروں مگذار اگر غیرت داری  
اگر غیرت مند ہو تو بیگانے کو اندر گلی کی طرف جانے مت دو۔



- ۱۴۴ • بحق بگر نیز اگر از دشمن خلاصی یابی  
اللہ کی طرف بھاگو (اللہ کی پناہ میں آ جاؤ) اگر دشمن سے خلاصی چاہتے ہو۔
- ۱۴۵ • بیگانہ راز حق یاری خواہ تانصرت یابی  
بیگانہ کے لئے اللہ سے مدد مانگو تاکہ کامیاب ہو جاؤ گے۔
- ۱۴۶ • کارِ امروز بفر داحوالہ کن تانجسرت درنمانی  
آج کا کام کل پرمت چھوڑ دے تاکہ چھٹا ناہ پڑے۔
- ۱۴۷ • وقت کار در ریاب تا کار تو بسازد  
کام کے وقت پر قابو پالے تاکہ تمہارا کام نکل آئے۔
- ۱۴۸ • صلہ ہر چہ سز نگہدار تادرفتنہ نیفتی  
ہر چیز کی حد کا خیال رکھا کرو تاکہ کسی آزمائش میں نہ پڑو گے۔
- ۱۴۹ • اندیشہا بسیار از دل دور کن تا بسامان شنوی  
گو ناگوں و سوسوں کو دل سے نکال دو تاکہ سامان حاصل کر سکو گے۔
- ۱۵۰ • شب بیدار باش اگر بوبے محبت داری  
شب بیداری اپنا شیوہ بناؤ اگر بوبے محبت رکھتے ہو۔
- ۱۵۱ • بان خود محتسب گیر تادانی  
اپنے ساتھ محتسب (دل بیدار) رکھ لو تاکہ حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے  
دل بیدار پیدا کر کہ دل بیدار نہ ہو جب تک  
نتیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری اقبالہ
- ۱۵۲ • درد حاصل کن تادرمالے یابی  
درد (دردِ دل) حاصل کرو تاکہ دوا بھی پاؤ گے۔

- ۱۵۳ • از عیب مرداں چشم گیر تا عیب خود مشاہدہ کنی  
دوسروں کے عیب سے نظر کتر او تاکہ اپنے عیب نظر آئیں۔
- ۱۵۴ • رنج بادیر اختیار کن تا بکعبہ رسی  
بیابان کے سفر کی صعوبت برداشت کرو تاکہ کعبہ پہنچ جاؤ گے۔
- ۱۵۵ • راز خود با کس مگوی تا گنج یابی  
اپنا راز کسی کو مت کہو تاکہ نزانہ پاؤ گے (فائدے میں رہو گے)
- ۱۵۶ • با کس باش تا بیکس نشوی  
صحبتِ صالح اختیار کرو تاکہ بے کس بن کر نہ بیٹھو گے۔
- ۱۵۷ • زیان کس میندیش اگر سودخواہی  
اگر نفع اٹھانا چاہتے ہو تو کسی کے لئے نقصان مت چاہو۔
- ۱۵۸ • بے خود باش چو با خلق باشی  
اپنے کو بھول جاؤ جب لوگوں میں رہو گے (دوسروں میں گم نہ ہو جاؤ)۔
- ۱۵۹ • بے ہمہ باش چوں با ہمہ باشی تارہائی یابی  
سبوں میں رہتے ہوئے سبوں سے الگ رہو تاکہ آزادی پاؤ گے  
عالم آزادگان ہے اک جہاں سب سے الگ  
ہے زمین ان کی الگ اور آسماں سب سے الگ حالت
- ۱۶۰ • صحبت بانیکاں کن اگر نیکی خواہی  
اگر نیکی کے طلبکار ہو تو نیکیوں کی صحبت اختیار کرو۔
- ۱۶۱ • بعجز اقرار کن تادرنمانی  
اپنی دراندگی و عاجزی کا اقرار کرو تاکہ دراندہ نہ ہو جاؤ گے۔



- 162 ● از ہمہ بیگانہ شو اگر یگانہ طلبی  
اگر اس ایک کے طلبگار ہو تو ہر ایک کے ساتھ بیگانہ بن کے رہو۔
- 163 ● بے رہ سہم مرو تا گمرہ نشوی  
رہ سہر کے بغیر مت چلو تا کہ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔
- 164 ● بابد خویاں نیکو باش تا زیاں زدہ نشوی  
بد نظریوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کر دیکھ کوئی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔
- 165 ● خاموش باش تا برہی  
خاموش رہا کرو تا کہ (زبان کی آفت سے) بچ جاؤ گے۔
- 166 ● کار خود پنہاں گیر تا قیمت گیر  
اپنے (دری) مشاغل کو پوشیدہ رکھا کرو تا کہ (اللہ کی نظروں میں) اسکی قیمت بڑھ جائے
- 167 ● آزار کس خواہ تا آزرده نشوی  
کسی کو تکلیف مت دو تا کہ خود تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤ گے۔
- 168 ● باد و ستان خدا آشنائی کن تا عاقبت سود کنی  
اللہ کے محبوبوں کے ساتھ لوگاؤ تا کہ آخر کار فائدہ اٹھاؤ گے۔
- 169 ● سود و زیاں خود ندانی ازاں سبب چینیں پریشانی  
تم اپنے نفع نقصان سے بے خبر ہو اسی وجہ سے اتنے پریشان ہو۔
- 170 ● دل بر جائے دار اگر توانی تا بجائے رسی  
ایک ہی جگہ دل لگاؤ تا کہ کسی منزل تک پہنچ جاؤ گے (عاشق ہر جانی مت بنو)
- 171 ● خود را قطرہ شناس اگر دریائی  
اگر تو دریا بھی ہے مگر اپنے کو قطرہ ہی جان لے (اپنی شخصیت پر نہ اتراؤ)

- 172 ● باگدایاں بنشیں اگر چہ سلطانی  
اگر تم بادشاہ بھی ہو گے تو بھی غریب عوام کے ساتھ گھل ل کے رہو۔
- 173 ● نم آزار باش اگر چہ سلیمانی  
اگر حضرت سلیمان جیسی طاقت بھی ہاتھ آئے پھر بھی کسی کو مت سناؤ۔
- 174 ● والحمد للہ والسلام علی من اتبع الهدی  
اللہ کا شکر ہے اور آپس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔
- 175 ● بدانکہ رؤس ذما تم ہفت است  
یکی نخل و دوم خشم و سوم آرز چہارم حقد و پنجم شہوت و ناز  
ششم کبر و ہفتم ہفت یارت ازین یا راں نخل بگرفت کارت  
جان لے برائی کی سات جڑیں ہیں۔
- ایک نخل دوم خشم و غضب سوم لالچ چہارم کینہ پنجم  
خواہشات بد ششم غرور اور ہفتم حسد (ان سات ذمائم کو  
تو نے اپنا دوست بنایا ہے اسی لئے تمہارا کوئی کام درست نہیں ہوتا۔  
(دنیا بھی تباہ حال آخرت بھی برباد)



• ملکہ! بادشاہ! خداوند! رحیم! اے  
زبان مارا کہ خطیب خطبہ دردہان ماست بمذاکرہ  
اذکر اللہ ذکراً کثیراً  
گویا دار

اے مالک! اے بادشاہ! اے آقا! اے کریم!  
ہماری زبان ہے۔ جو ہمارے منہ میں خطبہ دینے والا خطیب ہے۔  
اذکر اللہ ذکراً کثیراً (یعنی اللہ کی بہت ہی یاد کیا کرو) کے ذکر سے  
تر زبان رکھ لے۔

• چشم مارا کہ راہ بین یقین ماست  
فالنظر الی آثار رحمت اللہ  
بینا دار


ہماری آنکھ کو۔ جو کہ ہماری راہ ایمان و یقین پر نظر رکھتی ہے۔  
فالنظر الی آثار رحمت اللہ (یعنی اللہ کی نشاں ہمارے رحمت کا مشاہدہ  
کیا کرو)

(کے نور سے) بینا رکھ لے

• گوش و ہوش مارا باستماع سماع  
فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له  
شوا دار

ہمارے کانوں کو فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له (جب قرآن پڑھا جائے  
تو خاموشی سے) سنا کرو۔ کی آواز سے بہرہ مند رکھ لے۔

## منتور مناجات





• صندوق دل مارا از وسوسہ  
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس  
ایمن دار

ہمارے دلوں کی خلوت گاہوں کو

الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس  
(یعنی جن والنس کے الخناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں)  
کے شہر و سوس سے محفوظ رکھ لے۔

• جلال مارا کہ سلطان ولایت ایمان ماست  
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان

معزول مگرداں

ہماری شخصیت۔ جو کہ ہمارے ملک ایمان کی تخت سلطانت  
پر متمکن ہے۔ کو

اولئک کتب فی قلوبہم الایمان  
(یعنی یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں پر ایمان کو ثبت کیا گیا ہے۔)  
کی عزت سے محروم مت کر لے۔

• دستہاے مارا از گرفتار لقمہ ناقصہ  
ولاتاکلوا أموالکم بینکم بالباطل  
زگا ہار

ہمارے ہاتھوں کو

ولاتاکلوا أموالکم بینکم بالباطل

• یعنی ایک دوسرے کا مال غلط اور باطل طریقوں سے ہڑپ مت کیا کرو۔  
حکم کے تحت حرام غذا لینے سے بچائے رکھو۔

• قدم مارا از قرب

انّ لہم قدم صدق عند ربہم

ثابت دار

ہمارے قدموں کو

ان لہم قدم صدق عند ربہم

(یعنی ان کے لئے اپنے رب کے پاس سچا اور مخلصانہ قدم ہے)

کی قربت پر ثابت قدم رکھ لے۔

• فرزندان مسلمانانرا در مکتب کرامت

الرحمن علم القرآن

بتعلم مشرف گرداں

مسلمان زادوں کو

الرحمن علم القرآن (یعنی خدائے رحمن نے قرآن سکھایا) کی بدولت  
معزز و محترم درس گاہوں میں تسلیم دینی سے سرفراز فرما۔

• پدر و مادر کہ محبوس لہر گور خانہ کہ امیر خاک گشتند بر التیاش

یلبشترہم ربہم برحمة

برحمت خویش بشارت رساں

ہمارے والدین کو جو کہ قبروں کی مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں۔

یلبشترہم ربہم برحمة (یعنی ان کا رب ان کو رحمت کی خوشخبری سنائے)



کی رحمت کی خوشخبری سے مستتر فرما۔

• در انشاعت کما جمل مارا از دروازه دنیا کی فانی بیروں کند  
مارا از تلقین

ان الله يغفر الذنوب جميعا  
جدا مگر داں

اس وقت جب کہ موت ہمیں فانی دنیا سے باہر دھکیل دیگی  
ان الله يغفر الذنوب جميعا (یعنی خداوند کریم سب گناہ معاف فرمائے گا)  
کی تلقین و بشارت سے محروم مت کر لے۔

• سلاطين را بدار عدل و انصاف  
ان الله يامر بالعدل والاحسان  
آراستہ دار

حاکموں کو عدل و انصاف اور دادرسی میں  
ان الله يامر بالعدل والاحسان (یعنی یقیناً خداوند کریم عدل و احسان کا حکم  
دیتا ہے۔ سے مزین کر لے۔

• بیمار ان اہل ایمانرا شفا از دار و خانہ  
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين  
معجون لطف کرامت کن  
مومنوں کے بیماروں کو

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (یعنی ہم نے قرآن پاک سے ایمان  
داروں کے لئے شفاء اور رحمت نازل فرمائی) سے لطف و مہربانی کی معجون و دروغناہیت

• آب مبارک بزتارک نبات  
وانزلنا من السماء ماء

مبارک پچا پچہ اوست بارزندہ در میان خلقی پاپتہ درہ دار  
باران رحمت کو

وانزلنا من السماء ماء (یعنی اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا)  
لوگوں میں اس نعمت کو ہمیشہ جاری رکھ لے۔

• تو انگر انرا بہ خلعت  
من التّعفف  
آراستہ دار

سرمایہ والوں کو  
من التّعفف (یعنی عفت و پاکدامنی کے جوہر سے)

کی زینت سے صاحب زینت بنا۔

• در ویشال را البصبر  
ان الله مع الصابرين  
قرین گرواں

غریب خستہ حالوں کو  
ان الله مع الصابرين (یعنی یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)  
صبر و قرار کا حامل بنا لے۔

• علماء دین را بدرجات نجات  
والذین او تو العلم در رجات



آراستہ دار

علماء دین کو

والذین اوتوا العلم دساجت (یعنی علم والے بلند مرتبوں اور درجات پر فائزین)  
کے طفیل نجات و درجات سے نوازے۔

• عمر ما و کافۃ اسلام نجات رسیدہ با سعادت

بشہادت ختم گزراں

یا الہ العالمین ویا خیر الناصرین

برحمتک یا ارحم الراحمین

ہماری اور کافۃ المسلمین کی عمروں کا خاتمہ شہادت کی سعادت پر ہو۔

یا الہ العالمین ویا خیر الناصرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اے رب کائنات! اے خدائے نصرت بخش، اے برگزیدہ و برتر

خدائے رحیم۔